

پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ



پراجیکٹ ڈیٹا شیٹس (Project Data Sheet - PDS) میں پراجیکٹ یا پروگرام سے متعلق معلومات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے: چونکہ PDS جاری پراجیکٹس کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے ابتدائی مرحلے میں بعض معلومات شامل نہیں کی جاسکتی لیکن جب یہ معلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انہیں شامل کر لیا جاتا ہے۔ مجوزہ پراجیکٹس کے بارے میں مذکورہ معلومات عارضی اور اشاراتی نوعیت کی ہوتی ہیں۔

PDS تیار کرنے کی تاریخ		-
PDS اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ		28 اکتوبر 13
پراجیکٹ کا نام	وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں [فائاً] میں آبی وسائل کی ترقی کا منصوبہ	
ملک	پاکستان	
پراجیکٹ/پروگرام نمبر	002-47021	
کیفیت/ صورت حال	مجوزہ	
جغرافیائی محل و وقوع/جگہ	وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے [فائاً]	
کسی بھی ملکی پروگرام یا حکمت عملی تشکیل دینے۔ کسی پراجیکٹ کی مالی معاونت کرنے یا کسی عہدے یا حوالہ دینے سے ایشیائی ترقیاتی بینک کا کسی علاقے یا جغرافیائی حدود کی قانونی یا دیگر حیثیت کے بارے میں رائے قائم کرنا مراد نہیں ہے۔		
شعبے یا ذیلی شعبے کی درجہ بندی	زراعت اور قدرتی وسائل/ آبیائی، نکاسی اور سیلاب سے تحفظ	
بنیادی درجہ بندی	معاشی ترقی	
صنف کو مرکزی دھارے میں لانے کی کیٹیگریاں	کوئی صنفی عنصر نہیں	

مالیت کاری

منظور شدہ رقم [ہزار]	منظور شدہ نمبر	فنانسنگ کا ذریعہ	مالی معاونت کی قسم / طریقہ
30,000	-	ایشیائی ترقیاتی بینک	قرض
10,000	-	ہم منصب	
-	-	-	-
US\$ 40,000			میزان

تحفظ کی کیٹیگریاں

تحفظ کی کیٹیگریوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مہربانی فرما کر یہ ویب سائٹ دیکھیں:
<http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories>

ماحول	بی
غیر رضاکارانہ نوآباد کاری	سی
مقامی لوگ	سی

■ ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خلاصہ

■ ماحولیاتی پہلو

نشاندہی شدہ ذیلی منصوبوں کے لئے ابتدائی ماحولیاتی جانچ پڑتال (IEE) کی جائے گی جبکہ ایک ماحولیاتی تشخیص اور جائزہ فریم ورک (EARF) تیار کیا جائے گا۔ جوکہ منصوبے پر عمل درآمد کے مرحلے کے دوران منتخب کئے جانے والی ذیلی منصوبوں کے لئے اٹھائے جانے والے اقدامات میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ یہ ذیلی منصوبوں کے لئے انتخاب کی شرائط اور نگرانی کی ضروریات فراہم کرے گا۔

■ غیر رضاکارانہ آباد کاری

نئے ذخائر، بند اور نہروں [آبی راستوں] کی تعمیر کے لئے جگہ درکار ہوگی۔ ہر ذیلی منصوبے کے لئے صرف چند ہیکٹرز زمین درکار ہوگی اور اس میں سے بھی زیادہ تر بنجر ہونے کی توقع ہے۔ S-PPTA منصوبے کے لئے زمین کا حصول اور نوآبادکاری فریم ورک (LARF) کے ساتھ ساتھ ہر اہم ذیلی منصوبے کے لئے نوآبادی کا منصوبہ تیار کرے گا۔

■ مقامی لوگ

منصوبے کے علاقے میں کوئی مقامی لوگ نہیں

■ اسٹیک ہولڈرز (متعلقہ افراد اور اداروں) سے ابلاغ، ان کی شرکت اور مشاورت

■ پراجیکٹ کے ڈیزائن کے دوران

اس پراجیکٹ کے نمایاں اسٹیک ہولڈرز وہ خاندان ہوں گے جو آبپاشی سے قابل کاشت اراضی میں اضافے اور قابل اعتبار اضافی پانی سے مستفید ہوں گے۔ اس کے متعلق ادارک ہے کہ اس کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ پراجیکٹ کے ڈیزائن کے دوران مستفید ہونے والے افراد سے مشاورت کی جائے گی۔

■ پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران

مستفید ہونے والے افراد اور خاندانوں کو متحرک کرنے کے عمل کے ذریعے متحرک کیا جائے گا۔ اور کمیونٹی تنظیمیں (COs) بنائی جائیں گی۔ یہ ذیلی منصوبوں کی شناخت، منصوبہ بندی، ڈیزائن اور عملدرآمد کے عمل میں شرکت کریں گے۔

■ تفصیل

مجوزہ منصوبے کے سکوپ کی بنیاد FRDP کے تحت کی جانے والی پانی کی تشخیص اسٹڈی کی سفارشات پر ہوگی۔ FRDP پانی کی کمی، آبپاشی کی ناکافی سہولیات، پانی کا تحفظ و بچاؤ اور پانی کے کمزور وسائل کی مینجمنٹ وغیرہ

جیسے مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ اسٹڈی میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ تمام واٹر شیڈز میں گراؤنڈ واٹر ختم ہو رہا ہے اور یہ عمل اوسط موسمی حالات میں بھی جاری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پانی کو کسی مناسب منصوبہ بندی کے بغیر ہی آبپاشی اور دیگر گھریلو مقاصد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسٹڈی میں گراؤنڈ واٹر کی بجائے سطح زمین کے پانی کو استعمال کرنے کی سفارش کی گئی۔ اس میں سیرابی زراعت اور دیگر مقاصد کے لئے سطح زمین پر آبی وسائل بڑھانے کے امکانات کی نشاندہی اور ان آبی وسائل کو واٹر شیڈ مینجمنٹ اور کمانڈ ایریا ڈویلپمنٹ سے مربوط کرنے پر زور دیا گیا تاکہ واٹر شیڈز کو مزید خالی کئے بغیر وسائل کے پائیدار استعمال کو یقینی بنایا جاسکے۔ اس میں مہمند، باجوڑ اور خیبر ایجنسیوں میں مزید اراضی کو سیراب کرنے اور وہاں واٹر شیڈ مینجمنٹ میں بہتری لانے کے لئے چھوٹے ذخائر/جوہڑوں کے لئے مقامات کی نشاندہی اور پانی موڑنے کے لئے پشتے/بند تجویز کئے گئے ہیں۔ یہ منصوبہ ان تین ایجنسیوں میں آبپاشی کے لئے پانی فراہم کرے گا۔ یہ ایجنسیاں بارانی علاقہ میں ہیں اور اس آبپاشی منصوبہ کے ذریعے یہاں نہ صرف فصل کی پیداوار میں اضافہ ہو گا بلکہ مزید زمین کو زیر کاشت لایا جاسکے گا۔ اس کے تحت (i) چھوٹے ذخائر/جوہڑ، پانی کا رخ موڑنے کے پشتے اور منتقلی کے چینلز تعمیر کئے جائیں گے (ii) کمانڈ ایریا کی تعمیر اور (iii) واٹر شیڈ مینجمنٹ کو بہتر بنایا جائے گا۔ اس منصوبہ کے اثرات میں مستفید ہونے والے خاندانوں کی آمدن میں اضافہ اور اس کے نتائج منتخب واٹر شیڈز اور ان کے متعلقہ قدرتی آبی منبع/ذریعہ کی افادیت میں اضافہ کی صورت میں نکلیں گے۔ اس منصوبہ کے دیگر ثمرات یہ ہوں گے۔ (i) زرعی آبپاشی میں بہتری، اور (ii) پراجیکٹ پلاننگ، مینجمنٹ اور دیگر معاون سہولیات کی مضبوطی۔

■ پراجیکٹ کی خصوصیات اور اس کا ملکی/علاقائی حکمت عملی سے تعلق

فاٹا پاکستان کے غریب اور پسماندہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس کی کل آبادی 4.5 ملین کے لگ بھگ ہے اور یہاں کے تقریباً 93 فیصد لوگ دیہات میں رہتے ہیں۔ یہاں کی سماجی و معاشی ترقی کی علامات اور اشارے مثلاً صحت، تعلیم، فراہمی آب، سڑکیں اور زرعی زمین، ملک کے دوسرے حصوں اور صوبہ خیبر پختونخوا (KP) کے مقابلے میں کم ترین سطح کو چھو رہے ہیں۔ زیادہ تر آبادی کی گزراوقات زراعت اور پالتو جانوروں پر ہے۔ یہاں 2.7 ملین ہیگٹرز رقبے میں صرف 8 فیصد پر کاشتکاری کی جاتی ہے۔ اس قابل کاشت رقبے کا 38 فی صد آبپاشی سے سیراب ہوتا ہے جبکہ 62 فیصد علاقہ بارانی ہے۔ زمین کی ملکیت بھی کم ہے۔ 85 فیصد خاندان 2 ہیگٹرز سے کم رقبہ کے مالک ہیں جو ان کی بسر اوقات کے لیے ناکافی ہے۔ فاٹا کے موسمی حالات خشک ہیں۔ پانی کی کمی یہاں کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے اور فاٹا کے باسیوں کے سماجی و معاشی حالات میں بہتری کی کوششوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بارشوں میں کمی اور کسی منصوبہ بندی کے بغیر پانی کا ناجائز استعمال واٹر شیڈز میں موجود گراؤنڈ واٹر کو تیزی سے ختم کر رہا ہے۔ آبی ذخائر خاص طور پر گراؤنڈ واٹر کا بغیر کسی منصوبہ بندی کے استعمال، جنگلات کی کٹائی اور جانوروں کے چرانے کی جگہوں کا زیادہ استعمال قدرتی وسائل پر زیادہ بوجہ کا باعث ہے۔ واٹر شیڈز مسلسل زوال پذیری کا شکار ہیں۔ نتیجے کے طور پر پانی کے ذخائر اور پودوں کی زندگی میں کمی آئی ہے۔ یہ تمام امور مجموعی ماحولیاتی توازن کو بگاڑنے کا باعث بن رہے ہیں۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں (FATA) میں مجوزہ ترقیاتی منصوبہ برائے آبی وسائل (FWRDP) پاکستان کے مغرب میں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ ADB کی فاٹا کی تین ایجنسیوں [مہمند، باجوڑ اور خیبر] میں سرمایہ کاری کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری ADB کے فنانس یافتہ فاٹا دیہی ترقیاتی منصوبہ (FRDP) کے تحت کی جارہی ہے۔ یہ منصوبہ مارچ 2012ء میں مکمل ہوا۔

■ ترقیاتی اثرات

منصوبہ کے علاقوں [باجوڑ، خیبر اور مہمند] میں فارم آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔

■ پراجیکٹ کے نتائج

نتائج کی تفصیل

منتخب واٹر شیڈز کی افادیت اور ان کے متعلقہ قدرتی وسائل کی –
بنیاد/منبع کو پائیدار طریقے سے بہتر بنایا گیا

■ کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت

پراجیکٹ کی کوششوں کی تفصیل	عملدرآمد کی پیش رفت کی صورت حال (کوششیں، سرگرمیاں اور مسائل)
1. آبپاشی کی ذراعت میں بہتری، 2. منصوبے کی پلاننگ، منیجمنٹ اور دیگر معاون ڈھانچے کی مضبوطی	–
ترقیاتی مقاصد کی صورت حال	مادی تبدیلیا
–	–

■ کاروباری مواقع

پہلی فہرست کی تاریخ	30 Jul 13
مشاورتی خدمات	ڈیزائن اور منیجمنٹ میں تعاون کے لیے مشاورتی خدمات درکار ہوں گی۔ فائنا اور اس کے ہمسایہ صوبے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے انفرادی مشیروں کو مقامی تصور کرتے ہوئے بھرتی کیا جائے گا۔ کیونکہ غیر مقامی افراد کو منصوبے کے علاقے میں سیکورٹی خطرات لاحق ہیں۔
پروکیورمنٹ	چھوٹے کاموں کے لیے کنٹریکٹس درکار ہوسکتے ہیں اور انہیں ADB قومی مسابقتی بولی کے طریقہ کار کی روشنی میں حاصل کیا جائے گا۔
پروکیورمنٹ اور کنسلٹنسی کے مواقع کے لیے دیکھیں:	
	http://www.adb.org/projects/47021-002/business-opportunities

■ نظام الاوقات

تصوراتی خاکہ کی وضاحت	29 جولائی 13
حقائق کی جانچ پڑتال	01 اپریل سے 15 اپریل 2014
انتظامیہ کی جائزہ کمیٹی	13 جون 14
منظوری	–
آخری جائزہ مشن	–

اختتام			موثریت	دستخط	منظوری	منظوری نمبر
حقیقتی	نظر ثانی شدہ	اصل				
-	-	-	-	-	-	-

استعمال

فیصد	دیگر [ہزار ڈالر]	ADB [ہزار ڈالر]	منظوری نمبر	تاریخ
معادہ کامجموعی ایوارڈ				
-	-	-	-	-
رقم کی مجموعی ادائیگی				
-	-	-	-	-

معادہ جات کی صورت حال

معادہ جات کی اقسام کی مندرجہ ذیل درجہ بندی کی جاتی ہے اڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، تحفظ کے امور، سماجی شعبہ، مالیاتی، معاشی اور دیگر۔ مندرجہ ذیل معیار کے مطابق معادہ جات کی ہر ایک قسم کی درجہ بندی کی جاتی ہے: (i) تسلی بخش اس درجہ بندی میں تمام معادہ جات کی شرائط کی تعمیل کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک استثناء دینے کی اجازت ہوتی ہے، (ii) جزوی تسلی بخش اس درجہ بندی میں زیادہ سے زیادہ دو معادوں کی شرائط کی تعمیل نہیں کی جاتی ہے، (iii) غیر تسلی بخش اس درجہ بندی میں تین یا اس سے زائد معادوں کی شرائط کی تعمیل نہیں کی جاتی ہے۔ ابلاغ عامہ پالیسی 2011 کے مطابق پراجیکٹ کے مالیاتی گوشواروں کے لیے معادہ کی درجہ بندی کا اطلاق صرف ان پراجیکٹس پر ہوتا ہے جن کی بات چیت کی دعوت 2 اپریل 2012 کے بعد دی گئی ہو۔

کیٹیگری							منظوری نمبر
پراجیکٹ کے مالیاتی گوشوارے	تحفظ کے امور	دیگر	معاشی	مالی	سماجی	شعبہ جاتی	
-	-	-	-	-	-	-	- Loan
-	-	-	-	-	-	-	-

■ رابطے اور تازہ ترین تفصیلات

(Raza Mahmood Farrukh (rfarrukh@adb.org	ADB کا ذمہ دار افسر
سنٹرل اینڈ ویسٹ ایشیا ڈیپارٹمنٹ	ADB کا ذمہ دار محکمہ
پاکستان ریڈیٹنٹ مشن	ADB کے ذمہ دار ڈویژن
–	عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

■ رابطے

http://www.adb.org/projects/47021-002/main	پراجیکٹ کی ویب سائٹ
http://www.adb.org/projects/47021-002/documents	پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست